



23 جنوری 2018

محترم والدین/ نگران

مفت اسکولی کھانا

فی الحال ہم لوگ ایسے بچوں کے لیے اپنے ریکارڈز کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ مفت اسکولی کھانوں کا دعویٰ پیش کرنے کے اہل ہوں۔ تمام اہل طلبہ کے لیے دعویٰ پیش کرنا لازمی ہے، اس سے آپ کے بچہ کو بھی فائدہ ہوگا نیز ان دعووں کی سطح سے اسکول کی فنڈنگ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس فارم کی تکمیل سے اسکول کو مزید حکومتی فنڈ حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے جس کا استعمال آپ کے بیٹے/ بیٹی کی تعلیمی ضروریات میں تعاون کے لیے کیا جا سکتا ہے؛ اس میں اسکولی ساز وسامان اور اسکولی سیاحتوں کی لاگت میں تعاون شامل ہو سکتا ہے، جس سے کہ آپ کا بیٹا/ بیٹی اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے گا/گی۔

ہم لوگ اپنی مقامی اتھارٹی کے توسط سے ایک قومی ڈیٹا بیس کا استعمال کرتے ہوئے اہلیت کی جانچ کر سکتے ہیں، جس کے معنی ہیں کہ اب ہمیں آپ کے دعویٰ کے ساتھ ثبوت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب ہمیں صرف معمولی معلومات درکار ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر ذکر کردیں کہ موجودہ ضابطوں کے تحت صرف وہی بچے جن کے والدین/ نگران کو درج ذیل میں سے کچھ موصول ہو رہا ہو مفت اسکولی کھانوں کے مستحق ہوں گے:

- انکم سپورٹ
- آمدنی پر مبنی ملازمت تلاش کرنے والوں کا بہتہ [INCOME BASED JOB SEEKERS ALLOWANCE (IBJSA)]
- آمدنی سے وابستہ کسی ملازمت اور سپورٹ کا بہتہ [AN INCOME-RELATED EMPLOYMENT AND SUPPORT ALLOWANCE]
- امیگریشن اور اسانلم ایکٹ 1999 کے حصہ 4 کے تحت سپورٹ
- ریاستی پنشن کریڈٹ کا ضمانتی عنصر
- یونیورسل کریڈٹ
- چائلڈ ٹیکس کریڈٹ – سوائے اس کے کہ آپ درج ذیل کوئی معیار پورا کرتے ہوں:

- i. کارگزار ٹیکس کریڈٹ کے اہل ہوں (آمدنی سے قطع نظر)
- ii. آپ کی سالانہ آمدنی 16,190 پانڈ سے زیادہ ہو (برائے مہربانی نوٹ کر لیں کہ یہ رقم اپریل 2017 کے لیے ہے اور اس میں ہر ایک سال تبدیلی ہو سکتی ہے)

اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مفت اسکولی کھانوں کا دعویٰ پیش کرنے کے اہل ہیں اور فی الحال ان کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس خط کے ذیل میں دی گئی گئی پرچی پھاڑ لیں اور اسے اسکول استقبالیہ کو پیر **2018 02 08** تک ایک لفافہ میں واپس کر دیں جس پر 'مفت اسکولی کھانا' تحریر ہو۔ ڈیٹا بیس سے تصدیق موصول ہونے کے بعد ہم لوگ آپ کے دعویٰ کی اہلیت کی تصدیق کر یں گے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ مفت اسکولی کھانے کا موجودہ بہتہ لنچ کے لیے 2.20 پانڈ ہے۔

آپ کی مخلص

مسز ایس، بیلینئر  
معاون ہیڈ ٹیچر

.....<

مفت اسکولی کھانا

والدہ (والدہ) کا پہلا نام:..... والدہ (والدہ) کی کنیت:.....

والد (والدہ) کی تاریخ پیدائش:..... یا تو نیشنل انشورینس نمبر:.....

یا نیشنل اسانلم سیکر سروس نمبر:.....

بچہ کا نام (1):.....

بچہ کا نام (2):.....

دستخط کنندہ والد (والدہ) / نگران

ہیڈ ٹیچر: کرسٹین میک لنتاک (Christine McLintock)

Rose Avenue, Hazlemere, High Wycombe, Bucks HP15 7UB T: 01494 815211 E: office@swr.school www.swr.school

